

حضرت نبیؐ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رؤیا و کشوف اور پیشگوئیاں

حافظ مظفر احمد

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں کو ان کی صداقت کے نشان کے طور پر فرماتا ہے۔ عالم الغیب خدا انہیں نہ صرف قبل از وقت غیب کی خبریں دیتا بلکہ ان پر غلبہ بخشتا ہے اور مستقبل میں ظاہر ہونے والی باتوں سے متعلق غیر معمولی علم عطا فرماتا ہے۔ (ابن: ۲۷) جس کا ذریعہ وحی و الہام اور رؤیا و کشوف ہیں (الشوری: ۵۲)۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو ”بیشتر اور نذر“ کے القابات سے نوازا گیا۔ آپ کو قرآن شریف میں بیان فرمودہ اصولی بشارات اور تنبیہات کی تفاصیل رؤیا و کشوف کے ذریعہ عطا فرمائی گئیں۔ اور امت مرحومہ میں قیامت تک رونما ہونے والے واقعات کے نظارے اس جزوی تفصیل کے ساتھ آپ کو کروائے گئے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ مثلاً ایک نظارہ نماز کشوف کے دوران آپ کو کروا یا گیا جس کے بارے میں (اس نماز کے بعد) صحابہ کے اس استفسار پر کہ آپ حالت نماز میں آگے بھی بڑھے اور پیچھے بھی بڑھے تو اس کا کیا سبب تھا؟ آپ نے اپنے اس کشف کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا مجھے ابھی اس مقام پر آئندہ کے وہ تمام نظارے کروائے گئے جن کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ جنت و دوزخ (کی کیفیات) بھی (دھکائی گئیں)۔ اس واضح اور جل کشف میں بعض نعماء جنت اپنے سامنے دیکھ کر آپ انہیں لینے کے لئے آگے بڑھے اور جہنم کی شدت و تمازت کا نظارہ کر کے پیچھے ہیں۔ (بخاری کتاب الکسوف)

نبی کریم ﷺ کے ان رؤیا و کشوف کی تفاصیل کتب احادیث میں موجود ہیں جن کے مطالعہ سے ان کی مختلف انواع اور کیفیات کا پتہ چلتا ہے جن میں سے بعض کا ذکر اس جگہ مناسب ہو گا۔

۱

وہ کشوف اور پیشگوئیاں جو نبی کریم ﷺ کی حیات مبارکہ میں ہی ظاہری رنگ میں پوری ہو گئیں مثلاً آنحضرت ﷺ کو حضرت عائشہؓ کے ساتھ شادی سے قبل آپؐ کو ان کی تصویر دکھا کر بتایا گیا کہ یہ آپ کی بیوی ہے۔ اس پیشگوئی بخوبی کامل ایمان کے باوجود آپ نے کمال احتیاط سے اس کی تعبیر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا ظاہری رنگ میں پورا ہونا ہی مراد ہے تو وہ خود اس کے سامان پیدا فرمادے گا۔ (بخاری کتاب النکاح) اور پھر ظاہر ناموافق حالات کے باوجود ایسا ہی ہوا۔

۲

وہ کشوف اور پیشگوئیاں جو آنحضرت ﷺ کی زندگی میں پوری ہو گئیں مگر ظاہراً نہیں بلکہ ایسی تعبیر کی شکل میں جو اس وقت واضح نہیں تھی۔ ایسے کشوف کثرت سے پائے جاتے ہیں جیسے غزوہ احد سے قبل حضور کا حالت کشف میں چند گائیوں کا ذبح کرنا اور اپنی تلوار کو لہرانا اور اس کا اگلا حصہ ٹوٹ جانا۔ (بخاری کتاب التعبیر)

احد میں ستر مسلمانوں کی شہادت کی قربانی اور خود رسول اللہ ﷺ کے زخمی ہونے اور دندان مبارک کے شہید ہونے کے رنگ میں ظاہر ہوئی تو پتہ چلا کہ اس رؤیا کی یہ تعبیر تھی۔

وہ رؤیا و کشوف جن کی تعبیر رسول کریم ﷺ کی زندگی میں ظاہر تو ہو گئی مگر اس تعبیر سے مختلف رنگ میں ظاہر ہوئی جو نبی کریم ﷺ کی زندگی میں اولادی تھی گویا کشف کے وقت اس کی تعبیر کی تفہیم کئی حکتوں کے پیش نظر بیان نہیں فرمائی گئی۔ تعبیر ظاہر ہونے پر کھلا کہ مفہوم کیا تھا۔ جیسے نبی کریم ﷺ کو ایک کھجروں والی جگہ دارالہجرت کے طور پر دکھائی گئی۔ اول آپ نے بیامہ کی سرزین مراحل میں مگر بعد میں کھلا کہ اس سے مراد یہ رب یعنی مدینۃ الرسول تھا۔ (بخاری کتاب التعبیر)

رسول کریم ﷺ کے وہ کشوف جو ظاہر نظر آپ ﷺ کی ذات والا صفات کے بارہ میں معلوم ہوتے ہیں مگر ان کی تعبیر کی تفہیم کے مطابق آپ نے اپنی وفات کے بعد ان کے ظہور کی پیشگوئی فرمائی۔ اور پھر ایسا ہی ظہور میں آیا۔ جیسا کہ دو کذاب مدعاں نبوت کے بارہ میں کشف میں نبی کریم ﷺ نے خود بیان فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میں سونے کے دو گنگن ہیں اور میں نے ان کو ناپسند کرتے ہوئے کاٹ دیا ہے۔ پھر مجھے اذن ہوا اور میں نے ان دونوں کو پھونک ماری اور وہ دونوں اڑ گئے۔ میں نے اس کی تعبیر دو کذابوں سے کی جو (میرے بعد) خروج کریں گے۔ عبید اللہ کہتے تھے ان سے مراد اسود عنیٰ اور مسلیمہ کذاب تھے۔ (بخاری کتاب المغازی و کتاب التعبیر)

اسی طرح حضور ﷺ نے بیان فرمایا کہ مجھے زمین کے خزانوں کی چاپیاں دی گئیں یہاں تک کہ میں نے اپنے ہاتھوں میں رکھیں۔ حضرت ابوہریرہؓ کہتے تھے کہ نبی کریم ﷺ تو وفات پا گئے اور اب تم ان خزانوں کو حاصل کر رہے ہو۔ (بخاری کتاب التعبیر)

وہ رؤیا و کشوف جن کا تعلق آخری زمانہ سے ہے۔ اس میں انذاری اور تبیہری دونوں قسم کے کشوف شامل ہیں جن کی تعبیرات رسول اللہؐ پر ظاہر نہیں کی گئیں، نہ ہی آپؐ نے ان کا ذکر فرمایا البتہ بعد میں اپنے وقت پر بعض تعبیرات کے ظہور پر خود زمانہ نے گواہی دی اور بعض کے ظہور کا ہنوز انتظار ہے مثلاً رؤیا میں رسول کریم ﷺ نے مسیح موعود اور دجال کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ (بخاری کتاب التعبیر)

بعض دوسری احادیث صحیحہ کے مطابق چونکہ دجال مکہ میں داخل نہیں ہو گا اسلئے علماء امت نے اس کشف کی تعبیر یہ کی کہ دجال کے طواف کعبہ سے مراد اسلام کی تباہی و بر بادی کی کوشش ہیں اور مسیح موعود کے طواف سے مراد خانہ کعبہ اور دین حق کی حفاظت کی سمجھی ہے۔
(مظاہر الحق شرح مشکلۃ المصالح جلد ۲ صفحہ ۳۵۹ عالمگیر پریس لاہور)

اسی طرح نبی کریم ﷺ کو آپؐ کی امت کی کثرت اور شان و شوکت کے ظارے بھی کرانے گئے۔ آپؐ نے فرمایا کہ اس کثرت کو دیکھ کر مجھے تجب ہوا جس نے میدان بھرے ہوئے تھے۔ (مسند احمد بن حنبل جلد ۱ صفحہ ۳، ۴ دار الفکر بیروت)

امت کے بعض ایسے ہی خوش نصیب گروہوں کا ذکر کرتے ہوئے آپؐ نے فرمایا میری امت جو ہندوستان سے جہاد کرے گی اور دوسری وہ جماعت جو مسیح موعود کے ساتھ ہوگی۔ (نسائی کتاب الجہاد)

اس پیشگوئی کا پہلا حصہ بڑی شان کے ساتھ اسلام کے ابتدائی زمانہ میں اس وقت پورا ہوا جب محمد بن قاسم کے ذریعہ سندھ کی فتح سے ہندوستان کی فتوحات کا آغاز ہوا اور انہوں نے سندھ کے باسیوں کو وہاں کے ظالم حکمرانوں سے نجات دلا کر عدل و انصاف کی حکومت قائم کی اور اپنے اعلیٰ کردار اور پاکیزہ اقدار سے اہل سندھ کو اپنا گرویدہ کر لیا اور یوں یہاں اسلام کا آغاز ہوا۔

پیشگوئی کے دوسرے حصے کا تعلق حضرت مسیح موعودؑ کے زمانہ اور آپؐ کی جماعت سے ہے جسے مسیح موعودؑ کی روحانی قیادت میں دین کی خاطر جدوجہد اور قربانیوں کی توفیق عطا ہونا تھی اور جن کے بارہ میں رسول خدا نے شوق و محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ میرے بھائی ہیں۔ (مند احمد بن حنبل جلد ۲ صفحہ ۳۰۰ دارالفکر بیروت) جنہوں نے مجھے دیکھا ہے مگر میری محبت کی خاطر قربانیاں کریں گے (مند داری کتاب الرقاۃ)۔ انہی غلامان مسیح موعودؑ کے ذریعہ دین اسلام کا وہ غلبہ مقدر ہے جس کے بارہ میں آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اس مسیح موعودؑ کے زمانہ میں اللہ تعالیٰ تمام مذاہب اور ملتوں کو ہلاک کر دے گا سوائے اسلام کے۔ (ابوداؤد کتاب الملام)

اسلام کی عالمگیر فتوحات کا یہی وہ زمانہ معلوم ہوتا ہے جس میں نبی کریم ﷺ کے اس کشف کی تعبیر بھی پوری شان کے ساتھ جلوہ گر ہو گی جس میں آپؐ نے بیان فرمایا کہ:

”اللہ تعالیٰ نے میرے لئے زمین کے مشرق اور مغرب کے کنارے سمیٹ کر دکھائے۔“ اور پھر اس کی تعبیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ”میری امت کی حکومت بالآخر ضرور اور سرزمینوں پر قائم ہوگی جو مجھے عالم رویا میں دکھائی گئی ہیں۔ (مسلم کتاب الفتن)۔

آنندہ زمانہ میں ان رویا و کشوف کی تعبیرات کے ظہور پر ہمارا ایمان اور یقین اس وقت اور پختہ ہو جاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں ہمارے آقا و مولا مخبر صادق حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے اس سے بھی کمزور زمانہ میں اپنے رویا و کشوف کی بناء پر جواہل بیان فرمائے وہ پوری آب و تاب کے ساتھ پورے ہو چکے ہیں۔ اس جگہ دو کشوف کا تفصیلی تذکرہ بطور نمونہ کیا جاتا ہے۔ ایک نہایت اہم اور غیر معمولی شان کا حامل لطیف کشف وہ ہے جس کا ناظر انہی کریم ﷺ کو غزوہ احزاب کے اس ہولناک ابتلائیں کر دیا گیا جب اہل مدینہ ایک طرف کفارِ مکہ کے امکانی حملے سے بچنے کی خاطر شہر کے گرد خندق کھود رہے تھے اور دوسری طرف اندر وی طور پر وہ سخت قحط سالی کا شکار تھے اور جب کہ حضرت جابرؓ کا بیان ہے کہ نبی کریم ﷺ اور آپؐ کے صحابہ خندق کی کھدائی میں مصروف تھے اور مسلسل تین دن سے فاقہ سے تھے۔ دریں اتنا کھدائی میں ایک سخت چنان آگئی جو ٹوٹی نہ تھی۔ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اس پر پانی پھیکنے پھر آپؐ نے اللہ کا نام لے کر کdal کی ضرب لگائی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اچانک نظر پڑی تو کیا دیکھتا ہوں کہ (فاقہ کی شدت سے) حضور ﷺ نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے۔ (بخاری کتاب المغازی)

حضرت براء بن عازب اس واقعہ کی مزید تفصیل بیان کرتے ہیں کہ خندق کی کھدائی کے دوران نبی کریم ﷺ کی خدمت میں جب ایک پتھریلی چنان کے نہ ٹوٹنے کی شکایت کی گئی اور آپؐ نے اللہ کا نام لے کر کdal کی پہلی ضرب لگائی تو پتھر شکستہ ہو گیا اور اس کا ایک بڑا حصہ ٹوٹ گرا آپؐ نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور فرمایا کہ شام کی سنجیاں میرے حوالے کی گئی ہیں اور خدا کی قسم! میں شام کے سرخ محلات اپنی اس جگہ سے دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپؐ نے اللہ کا نام لے کر کdal کی دوسری ضرب لگائی، پتھر کا ایک اور حصہ شکستہ ہو کر ٹوٹا اور رسول کریم ﷺ نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر کے فرمایا مجھے ایران کی چاپیاں عطا کی گئی ہیں اور خدا کی قسم میں مدارک اور اس کے سفید محلات اس جگہ سے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپؐ نے اللہ کا نام لے کر تیسرا ضرب لگائی اور باقی پتھر بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ آپؐ نے تیسرا مرتبہ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر کے فرمایا ”مجھے یمن کی چاپیاں سپرد کی گئی ہیں اور خدا کی قسم میں صنائع کے محلات کا ناظرہ اپنی اس جگہ سے کر رہا ہوں۔ (مند احمد بن حنبل جلد ۲ صفحہ ۳۰۳ دارالفکر بیروت)

یہ عظیم الشان روحانی کشف آنحضرت ﷺ اور آپؐ کے صحابہ کے زبردست یقین پر بھی دلالت کرتا ہے کہ ایک طرف فاقہ کشی کے اس عالم میں جب دشمن کے حملے کے خطرے سے جان کے لालے پڑے ہوئے ہیں اور خود حفاظت کے لئے خندق کھودنے کی دفاعی تدبیروں میں مصروف ہیں لیکن الہی وعدوں پر ایسا پختہ ایمان ہے کہ اپنے دور کی دو عظیم طاقتور سلطنتوں کی فتح کی خبر کمزور نہیں مسلمانوں کو دے رہے ہیں اور وہ بھی اس یقین پر قائم نعرہ ہائے تکبیر بلند کر رہے ہیں کہ بظاہر یہ انہوںی باتیں ایک دن ہو کر رہیں گی اور پھر خدا کی شان دیکھو کہ حضرت ابوکبرؓ کے زمانہ خلافت سے ان فتوحات کا آغاز ہو جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولیدؓ اور حضرت ابو عبیدہ اسلامی فوجوں کے ساتھ شام کو فتح کرتے ہیں اور حضرت عمرؓ کے زمانہ خلافت میں ان فتوحات کی تکمیل ہو جاتی ہے اور حضرت سعد بن ابی و قاصؓ کی سرکردگی میں مسلمان ایران

کی فتوحات حاصل کرتے ہیں اور صرف چند سال کے مختصر عرصہ میں دنیا کی دو بڑی سلطنتیں روم و ایران ان فاقہ کشوں مگر الہی وعدوں پر یقین محاکم رکھنے والے مسلمانوں کے زیر نگین ہو جاتی ہیں۔

دوسرے عظیم الشان کشف کا تعلق اسلامی بحری جنگوں سے ہے۔ مدنی زندگی کے اس دور میں جب بڑی سفر وں اور جنگوں کے پورے سامان بھی مسلمانوں کو میسر نہیں تھے نبی کریم ﷺ کو مسلمانوں کی بحری جنگوں کی خبر دیتے ہوئے نظارہ کروایا گیا۔ حضرت ام حرام بنت ملان بیان کرتی ہیں کہ حضور ہمارے گھر محب استراحت تھے کہ عالم خواب سے اچانک مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے۔ میں نے سبب پوچھا تو فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے پیش کئے گئے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے اس سمندر میں اس شان سے سفر کریں گے جیسے بادشاہ تخت پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ ام حرام تھی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان لوگوں میں سے بنا دے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے یہ دعا کی کہ اے اللہ اے بھی ان میں شامل کر دے۔ پھر آپؐ کو اوں گھر آگئی اور آنکھ کھلی تو مسکرا رہے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو آپؐ نے پہلے کی طرح امت کے ایک گروہ کا ذکر کیا جو خدا کی راہ میں جہاد کی خاطر نکلیں گے اور بادشاہوں کی طرح تخت پر بیٹھے سمندری سفر کریں گے۔ حضرت ام حرام نے پھر دعا کی درخواست کی کہ وہ اس گروہ میں بھی شامل ہوں۔ آپؐ نے فرمایا آپ گروہ ”اویں“ میں شامل ہو اور گروہ ”آخرین“ میں شریک نہیں۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ پھر ام حرام فاختہ بنت قرظہ زوج حضرت معادیہ بن الی سفیان کے ساتھ سمندری سفر میں شامل ہوئیں۔ اور اسی سفر میں واپسی پر سواری سے گر کر وفات پائی۔ (بخاری کتاب الجہاد)

اس حدیث میں جزیرہ قبرص کی طرف اشارہ ہے جو حضرت معاویہؓ کے زمانہ میں فتح ہوا، جب وہ شام کے گورنر تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں حضرت معاویہؓ کو پہلے عظیم اسلامی بحری بیڑے کی تیاری کی توفیق ملی۔ حالانکہ اس سے قبل مسلمانوں کو کوئی کشتی تک میسر نہ تھی اور پھر حضرت عثمانؓ کے زمانہ خلافت میں ہی حضرت معاویہؓ نے اسلامی فوجوں کی بحری کمان سنبھالتے ہوئے جزیرہ قبرص کی طرف بحری سفر اختیار کیا جو اسلامی تاریخ میں پہلا بحری جہاد تھا۔ جس کے نتیجے میں قبرص فتح ہوا۔ اور بعد میں ہونیوالی بحری فتوحات کی بنیاد یں رکھی گئیں۔ اور نبی کریم ﷺ کے مبارک مند کی وہ بات پوری ہوئی جو آپؐ نے فرمایا تھا کہ دین اسلام غالب آئے گا یہاں تک کہ سمندر پار کی دنیاوں میں بھی اس کا پیغام پہنچ گا۔ اور مسلمانوں کے گھر سوار دستے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے سمندروں کو بھی چیر جائیں گے۔

(کنز العمال جلد ۱۰ صفحہ ۲۱۲ مطبعہ الاصل حلب)

یہ پیشگوئی اس شان کے ساتھ جلوہ گر ہوئی کہ اس زمانہ کی زبردست ایرانی اور رومی بحری قتوں کے مقابل پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں مسلمانوں نے اپنی بحری قوت کا لواہا منوایا اور عبد اللہ بن سعد بن ابی سرح کی سرکردگی میں اسلامی بحری بیڑے نے بحیرہ روم کے پانیوں میں اپنی دھاک بھاکر اسلامی حکومت کی عظمت کو چار چاند لگا دئے۔ چنانچہ فتح قبرص کے بعد کی اسلامی مہماں میں جہاں مسلمان ایک طرف بحیرہ احمر کے اس پار پہنچے تو دوسری طرف مسلمان فاتحین نے بحیرہ روم کو عبور کر کے جزیرہ رودس، صقلیہ اور قسطنطینیہ کو فتح کیا۔ تیسرا طرف طارق بن زیادہ فاتح سینین نے بحیرہ روم کو چیرتے ہوئے بحر اوسن کے کنارے جبراٹر پر پہنچ کر ہرچہ بادا باد کہہ کر اپنے سفینے جلا دئے۔ تو چوتھی طرف محمد بن قاسم نے بحیرہ عرب اور بحر ہند کے سینے چیر ڈالے اور یوں مسلمانوں نے جریدہ عالم پر بحری دنیا میں کیا بلحاظ سمندری علوم میں ترقی، کیا بلحاظ صنعت اور کیا بلحاظ جہاز رانی امنٹ نقوش ثبت کئے جو رہتی دنیا تک یاد رہیں گے۔ نبی پندر گاہیں تعمیر ہوئیں، جہاز سازی کے کارخانے بنے، بحری راستوں کی نشاندہی اور سمندروں کی پیمائش کے اصول وضع ہوئے۔ اور مسلمان سمندروں پر بھی حکومت کرنے لگے اور رسول خدا ﷺ کے رؤیا و کشوف کمال شان کے ساتھ پورے ہوئے۔

اور یہ بات آج بھی ہمارے لئے ازدیاد ایمان و یقین کا موجب ہے کہ اسلام کی نشانہ ثانیہ کے وہ وعدے بھی ضرور بالضرور پورے ہوں گے جو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے ذریعہ ہم سے کئے گئے تھے۔

جس بات کو کہوں کہ کروں گا یہ میں ضرور

لٹی نہیں وہ بات خدائی یہی تو ہے

(مطبوعہ: الفضل انٹر نیشنل کمپنی جنوری ۱۹۹۹ء تا جنوری ۱۹۹۹ء)

[Contact](#) | [Sitemap](#) | [Affiliated Websites](#) | [Languages](#) |

Copyright © 2017 Ahmadiyya Muslim Community. All rights reserved.